



## سوال

(409) رضاعت میں شک سے نکاح باطل نہیں ہوتا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک شخص نے اپنے ماموں کی بیٹی سے نکاح کیا جس سے پانچ بچے پیدا ہوئے اُس کے بعد اس کی والدہ اور خاندان کے دیگر لوگوں کی گفتگو ہو رہی تھیں کہ اس کی والدہ نے بتایا کہ اس نے اس کی بیوی کو اس وقت دودھ پلایا تھا جب کہ اس کی عمر نو ماہ تھی پہلے تو اس نے کہا تھا کہ اس نے اسے صرف ایک بار دودھ پلایا تھا اور جب اس سے اصرار کے ساتھ پلہ تھا گیا کہ خوب یاد کر کے سچ بتائے کہ اس نے اسے کتنی بار دودھ پلایا تھا تو اس نے کہا کہ اب اسے یہ یاد نہیں کہ اس نے اسے ایک بار دودھ پلایا تھا یا زیادہ بار کیونکہ اب اس واقعہ کو میں سال ہو چکے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس حالت میں اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس حالت میں اسے کچھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رضاعت کے احکام صرف اسی صورت میں ثابت ہوتے ہیں جب یہ پانچ رضعات پر مشتمل ہو اور دودھ پھڑانے سے پہلے دو سال کی عمر کے اندر ہو اگر رضاعت اس سے کم ہو تو اس سے حرمت یا احکام رضاعت ثابت نہیں ہوتے۔ اگر رضاعت میں کوئی شک ہو کہ وہ پانچ رضعات ہے یا اس سے کم ہے تو اس صورت میں اسے پانچ رضعات سے کم سمجھا جائیگا اور اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ شک کی صورت میں شادی نہ کی جانی، لیکن اب جبکہ شادی ہو چکی ہے، عقد بھی صحیح طریقے سے ہوا ہے، لہذا تفریق لازم نہیں ہے کیونکہ ایسی کو یقینی و جہ ثابت نہیں ہے جو مفسد نکاح ہو بلکہ عقد ثابت اور یقینی ہے جبکہ مفسد غیر یقینی ہے، لہذا یقینی کو غیر یقینی کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا لہذا یہ نکاح برقرار ہے گا اور اس میں کوئی حرج نہیں، الایہ کہ اس کی والدہ کو یہ یاد آ جائے کہ اس نیاں عورت کو پانچ یا اس سے زیادہ مرتبہ رضاعت کے وقت دودھ پلایا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ عقد فاسد ہے، لہذا اس صورت میں تفریق ضروری ہوگی، اُس نکاح کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی اولاد اس شخص کی شرع یا اولاد ہوگی کیونکہ یہ ایسے نکاح کے نتیجہ میں پیدا ہوئی ہے جسے یہ حکم شرعی کے تقاضے کے مطابق صحیح سمجھتا تھا۔

حدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 3 ص 374



## محدث فتویٰ